



سوال

(133) دکان کے سامان مثلاً کپڑوں وغیرہ کی زکوٰۃ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک آدمی کی دو دکانیں ہیں جن میں مختلف قسم کے سامان مثلاً کپڑے، جوتے اور عطریات وغیرہ فروخت ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہر وہ شخص جس کے پاس سامان تجارت ہو خواہ وہ کپڑے ہوں یا کچھ اور ان کی قیمت پر اس کے پاس موجود نقدی پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے:

(ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامنان نخرج الصدقة من الذی نعد للبیع) (سنن ابی داؤد الزکاة باب العروض اذا كانت للتجارة الخ: 1562)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں جو ہم نے بغرض تجارت تیار کر رکھا ہو۔“

علاوہ ازیں ان دیگر دلائل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے جنہیں اہل علم نے سامان تجارت کی زکوٰۃ کے باب میں ذکر کیا ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

کتاب الزکاة: ج 2 صفحہ 120

محدث فتویٰ